



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 22/4/2024

گورنر HOCHUL کی جانب سے نیو یارک کے باشندوں کو ہفتہ آگاہی برائے شدید موسم کے دوران شدید موسم سے نمٹنے کے لیے اپنے گھر و اسباب کو تیار رکھنے کی ترغیب

شدید موسم سے متعلق ہفتہ آگاہی 27 اپریل تک جاری رہے گا

نیو یارک کے 380,000 سے زائد باشندوں کو نیو یارک کے شہریوں کی تیاری کے کورز نے ہنگامی اور آفات سے نمٹنے کے لیے تیاری کی تربیت دی

اپنے نزدیک موجود ریاست نیو یارک کے شہریوں کی تیاری کے کورز کے بارے میں [یہاں](#) معلوم کریں

ریاست کے مفت ہنگامی انتباہی نظام، [NY-Alert](#)، کے لیے سائن اپ ہوں

گورنر Kathy Hochul کی جانب سے آج کے دن ریاست نیو یارک میں شدید موسم سے متعلق ہفتہ آگاہی کے آغاز کا اعلان کیا گیا ہے اور نیو یارک کے افراد کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ شدید موسم کے لیے خود کو اور اپنے گھر و اسباب کو تیار رکھنے کا عملی قدم اٹھائیں۔ گورنر نے نیو یارک کی عوام کو یاد دلایا ہے کہ ریاست نیو یارک کے شہریوں کی تیاری کے کورز (New York State Citizens Preparedness Corps) کی جانب سے کورس میں شرکت کرنا اور ہنگامی انتظامیہ کے ماہرین سے ان اقدامات سے متعلق براہ راست مشورہ لینا بہترین طریقوں میں سے ایک ہے جو کہ افراد اور خاندانوں کو شدید موسم کے دوران محفوظ رہنے کے لیے اپنانے چاہئیں۔ نیو یارک کے باشندوں کو [NY-Alert](#) کے لیے سائن اپ ہونا چاہئے جو کہ موسم سے متعلق اور بروقت دیگر ہنگامی انتباہات حاصل کرنے کے لیے، ریاست کا مفت ہنگامی انتباہی نظام ہے۔

"ہمیں بہترین کی امید رکھنی چاہئے تاہم ہمیں برے وقت کے لیے بھی تیار ہونا چاہئے، شدید موسم سے متعلق ہفتہ آگاہی اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ یہ تیاری کتنی اہم ہے،" گورنر Hochul نے کہا۔ "میں نیو یارک کے تمام باشندوں کو ترغیب دیتی ہوں کہ وہ ان حفاظتی تجاویز کا جائزہ لیں اور ممکنہ حد تک ان پر عمل پیرا ہوں۔ جب جان بچانے کی بات آئے تو آگہی نہایت اہم ہے۔"

ریاست نیو یارک کی کور برائے شہری تیاری (Citizen Preparedness Corps، CPC) جو ریاست نیو یارک ڈویژن برائے وطن کی سلامتی اور ہنگامی خدمات (Division of Homeland Security and Emergency Services، DHSES) اور نیو یارک نیشنل گارڈ (New York National Guard، DMNA) کے زیر انتظام ہے، 2014 میں نیو یارک کے عام باشندگان کو ہنگامی حالات اور آفات کے لیے تیار ہونے، فوری طور پر ردعمل دینے اور آفات سے قبل کے حالات میں جلد از جلد واپسی کی تربیت دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ 2014 سے ریاست بھر میں کمیونٹی ترتیبات میں نیو یارک کے تقریباً 388,000 باشندوں نے CPC تربیت میں حصہ لیا۔

CPC کی تربیت کے دوران، حاضرین نے تیاری کے چار مراحل کے بارے میں سیکھا ہے جو کہ نیو یارک کے ہر فرد کو جاننے چاہئیں اور اگلی آفت کے آنے سے پہلے ان کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہئیں:

1. گھر، اسکول، کام اور باہر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں۔ پناہ لینے کے لیے ایک محفوظ جگہ کی نشاندہی کریں اور جانیں کہ انتباہ جاری ہونے پر کیا اقدامات کرنے ہیں۔ کسی ہنگامی صورتحال کی منصوبہ بندی کرتے وقت پالتو جانوروں کا خیال رکھیں۔
2. کم از کم 10 دنوں کے لیے ہنگامی سامان پر مبنی ایک کٹ تیار کریں۔ فلیش لائٹس، موسمی ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں شامل کریں۔ آپ کے پاس اپنے گھر اور گاڑی کے لیے ایک ایک کٹ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی طبی ضروریات جو آپ کے خاندان کو درپیش ہو سکتی ہیں ان کے لیے منصوبہ بنائیں۔ پالتو جانوروں کے لیے ہنگامی سامان رکھیں۔
3. TV اور ریڈیو اسٹیشنز کی مدد سے حالات سے باخبر رہیں جو ہنگامی انتباہی نظام ( Emergency Alert System، EAS ) کے پیغامات نشر کرتے ہیں، نیز اس وقت مقامی ہنگامی احکامات کی پیروی کریں جب وہ جاری کیے جائیں۔ ہنگامی معلومات براہ راست اپنے کمپیوٹر یا سیل فون میں حاصل کرنے کے لیے [alert.ny.gov](http://alert.ny.gov) پر NY Alert پر سبسکرائب کریں، جو کہ ایک مفت خدمت ہے جو آپ کو شدید ضرورت ہونے پر اہم ہنگامی معلومات فراہم کرتی ہے۔
4. اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے طریقوں کے متعلق مزید جاننے کے لیے اپنے مقامی ہنگامی انتظامیہ کے دفتر تشریف لے جائیں۔ امریکی ریڈ کراس، نیو یارک کیٹرز یا سالویشن آرمی جیسی تنظیموں کے ساتھ رضاکارانہ خدمات انجام دینے کے بارے میں غور کریں۔

ریاست نیو یارک کے ڈویژن برائے وطن کی سلامتی و ہنگامی خدمات کی کمشنر Jackie Bray نے کہا، "مجھے امید ہے کہ نیو یارک کے باشندے اس ہفتے کے دوران یہ منصوبہ تیار کرنے کے لیے وقت ضرور نکالیں گے کہ شدید موسمی حالات میں اپنے خاندان کو کیسے محفوظ رکھیں۔ یہ ایک مؤثر یاددہانی ہے کہ NY سیلابوں اور طوفانوں کا سامنا کرتا ہے، جو اکثر بہار اور گرمی کے موسم میں عام ہیں، اور نیو یارک کے باشندوں کو تیار رہنا چاہیے اور آگاہ ہونا چاہیے۔"

2023 میں، شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب ریاست نیو یارک میں سب سے عام موسمیاتی آفت رہی تھی۔ 9 جولائی 2023 کو، ہلکی رفتار کے ساتھ گرج چمک سے ہونے والی طوفانی بارشوں سے تین گھنٹے کے دوران نیو یارک میں مڈ ہٹسن خطے اور نیو یارک شہر کے کچھ حصوں میں نو انچ بارش برسی اور 13 اور 14 جولائی کو مزید 3-5 انچ بارش ہوئی۔ گزشتہ موسم گرما میں مختلف واقعات میں، مرکزی نیو یارک میں اوائل اگست میں طوفان کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں چند گھنٹوں کے اندر سات ہگولے تشکیل پائے۔

اس طرح کے شدید موسمی واقعات کثرت سے رونما ہو رہے ہیں، ریاست نیو یارک کلیدی شراکت داروں کے ساتھ، نہ صرف موسمی روش کی بغور نگرانی کرنے کے لیے، بلکہ مستقبل کے طوفانوں اور دیگر شدید موسمی حالات میں کمیونٹیز اور بنیادی ڈھانچوں کو محفوظ رکھنے میں مدد دینے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔

دسمبر 2023 میں، گورنر Hochul نے البانی میں نیو یارک کی ریاستی یونیورسٹی میں ریاست نیو یارک کے ابلاغی مرکز برائے موسمیاتی خطرات (New York's State Weather Risk Communication Center) یا SWRCC کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ مرکز یونیورسٹی کے محققین اور ریاستی ہنگامی منتظمین کے درمیان اپنی نوعیت کا پہلا عملیاتی تعاون ہے اور یہ اہم موسمی معلومات کے لیے نشریاتی ذرائع کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ایسے ٹولز تیار کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہے تاکہ ہنگامی منتظمین کو کمیونٹی کے تحفظ کے لیے باخبر فیصلے کرنے میں مدد دی جا سکے اور اس امر کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ کس طرح عوام کے لیے شدید موسم کے خطرات سے متعلق مواصلات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

SWRCC کے ڈائریکٹر Nick Bassill، PhD نے کہا، "NY ریاست کا ابلاغی مرکز برائے موسمیاتی خطرات نئے موسمیاتی ٹولز اور ابلاغی حکمت عملیاں تخلیق کر کے ریاست میں ہمارے ہنگامی انتظامی شراکت داران کے اس مقصد میں حصہ لینے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ ٹولز NYS Mesonet جیسے نیو یارک کے لئے منفرد موسم کے اعداد و شمار کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور مقامی بنیادی ڈھانچے کے اعداد و شمار کے علاوہ اچانک سیلاب کا سامنا کرنے والے مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان شدید موسمی حالات کے دوران، ہم اپنے ہنگامی انتظامی شراکت داران کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ متاثرکن موسمی واقعات کے لیے تیاری اور ردعمل کو بہتر بنایا جا سکے۔"

ریاست نیو یارک قومی موسمیاتی سروس (National Weather Service، NWS) کے ساتھ بھی مل کر کام کرتی ہے، جو کہ ریاست نیو یارک اور ملک بھر میں جان اور املاک کے تحفظ میں مدد دینے کے لیے موسم، پانی اور آب ہوا سے متعلق اعداد و شمار، پیش گوئی، انتباہات اور دیگر معاونتی خدمات فراہم کرتی ہے۔ NWS الہائی فورکاسٹ آفس بفلو، بنگھیمٹن، ایپٹن اور برلنگٹن، VT میں اضافی معاونتی دفاتر کے ساتھ ریاست نیو یارک کے لیے مرکزی دفتر ہے۔

**NWS ماہر موسمیات انچارج Christopher Gitro نے کہا،** "ریاست نیو یارک شدید طوفانوں، تیز ہواؤں اور بڑے اولوں سے فوری سیلاب اور کبھی کبھار بگولے جیسے شدید موسم کی تمام اقسام کا سامنا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جس وقت طوفان آیا ہو اس وقت باہر کوئی محفوظ جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گرج کی آواز آئے، تو آپ بجلی کے گرنے کی وجہ سے مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ طوفانوں اور شدید موسمی حالات کے بارے میں چوکنا رہنے کے لیے حالیہ پیش گوئیاں اور پُرخطر موسم کے امکان سے آگاہ رہنے کے لیے [www.weather.gov](http://www.weather.gov) ملاحظہ کریں۔"

ریاست نیو یارک کا دفتر برائے ہنگامی انتظامیہ اور اس کا نگرانی مرکز کا عملہ ریاست بھر میں موسم اور دیگر ہنگامی یا آفت سے متعلقہ واقعات کی نگرانی کے لیے سال بھر کے دوران موجود رہتا ہے۔ وہ مقامی، ریاستی اور NWS اور SWRCC سمیت وفاقی حکومتی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تاکہ ہنگامی امدادی کارروائیوں اور عوام کو ممکنہ شدید موسم اور اس کی تیاری کے طریقہ کار سے متعلق درست اور بروقت معلومات فراہم کریں۔

### شدید موسم میں بحفاظت رہنے کے گُر

#### اچانک سیلاب

- سیلاب زدہ سڑک پر کبھی گاڑی چلانے کی کوشش نہ کریں۔ واپس مڑ جائیں اور دوسری سمت میں چل پڑیں۔
- اگر آپ کی گاڑی میں آپ کے آس پاس پانی تیزی سے بڑھنے لگے تو گاڑی سے فوراً اتر جائیں۔
- تیز بہاؤ والے پانی کی طاقت کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں۔ تیز بہاؤ والا دو فٹ گہرا پانی آپ کی گاڑی کو بہا لے جائے گا اور دو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا پانی گاڑیوں کو سڑک یا پُل پر سے بہا کر لے جا سکتا ہے۔

#### طوفان

- نگرانی اور انتباہ کے درمیان فرق سے آگاہ ہوں: 'نگرانی' سے مراد طوفان کا امکانی خدشہ ہے تاہم 'انتباہ' سے مراد ہے کہ شدید طوفان آیا ہوا تھا اور اس کی آپ کے خطے کی طرف بڑھ جانے کی توقع ہے۔
- اگر آپ کو گرج کی آواز آئے، تو آپ بجلی کے گرنے کی وجہ سے مشکل میں پھنسنے کے امکان سے دوچار ہیں۔ فوراً کسی محفوظ پناہ میں چلے جائیں جیسا کہ تعمیراتی عمارت وغیرہ۔ اگر کوئی مضبوط پناہ موجود نہیں ہے، تو کسی موثر گاڑی کی مضبوط چھت میں چلے جائیں اور کھڑکیاں بند رکھیں۔
- کشتی سے اتر کر پانی سے دور چلے جائیں۔
- ٹیلی فون کی تاریں اور لوہے کے پائپس بجلی کے اچھے موصل ہوتے ہیں۔ موسم سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آلات پلگ سے ہٹا دیں۔ ٹیلی فون یا کسی الیکٹرانک آلات کے استعمال سے گریز کریں۔ صرف کسی ہنگامی صورتحال میں فونز استعمال کریں۔
- باتھ یا شاور نہ لیں۔
- ایئر کنڈیشنرز بند کر دیں — بجلی کی شدت سے کمپریسرز اوورلوڈ ہو سکتے ہیں۔
- اگر فوری سیلاب یا سیلاب کا خدشہ ہو تو اوپری منزل پر چلے جائیں۔
- حفاظتی جگہ پر جانے کے لیے گاڑی چلانے کی کوشش نہ کریں — زیادہ تر سیلابی اموات موثر گاڑیوں میں ہی واقع ہوتی ہیں۔

- اگر باہر ہیں تو، تو درختوں، جنگلوں اور کھمبوں سے دور نچلی جگہ تلاش کریں۔
- اگر آپ جنگل میں ہیں، تو چھوٹے درختوں کے نیچے پناہ لیں۔
- اگر آپ جلد میں جھنجھناہٹ یا اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس کرتے ہیں، تو پنچوں کے بل زمین کے قریب ہوں؛ اپنے گھنٹوں پر ایسے ہاتھ رکھیں کہ سر ان کے درمیان ہو؛ خود کو بدف بننے سے ممکنہ حد تک بچائیں؛ اور گراؤنڈ سے اپنا فاصلہ کم سے کم کریں۔

## آسمانی بجلی

- 30-30 کے اصول پر عمل کریں: اگر آپ کو بجلی کی چمک دکھائی دینے اور اس کی گرج سنائی دینے کے درمیان وقفہ 30 سیکنڈ یا اس سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانی بجلی اتنی قریب ہے کہ آپ کو اپنی زد میں لے لے۔ فوری طور پر محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ آسمانی بجلی کی آخری چمک کے بعد اپنی محفوظ پناہ گاہ سے نکلنے سے پہلے 30 منٹ تک انتظار کریں۔
- آسمانی بجلی سب سے اونچی چیز پر گرتی ہے۔ اگر آپ ارد گرد کے درختوں سے اونچی جگہ پر ہیں تو جلدی سے ان سے نیچے ہو جائیں اور اگر آپ کسی کھلی جگہ پر ہیں تو پنچوں کے بل بیٹھ جائیں۔
- اگر آپ کسی محفوظ پناہ گاہ تک نہیں جا سکتے تو درختوں سے دور رہیں۔ اگر کوئی محفوظ پناہ گاہ نہ ہو تو کھلی جگہ پر پنچوں کے بل بیٹھ جائیں اور کسی درخت سے اس کی لمبائی سے دوگنا فاصلہ رکھیں۔

## طوفانی بگولے

- اگر آپ کہیں باہر ہوں اور طوفانی بگولوں کی تنبیہ جاری ہو جائے، تو فوری طور پر پناہ ڈھونڈیں۔ اگر آس پاس کوئی جائے پناہ نہ ہو، تو اپنے ہاتھوں سے سر کو ڈھانپتے ہوئے کسی گڑھے یا نچلی جگہ پر سیدھے لیٹ جائیں۔
- اگر گھر میں یا کسی چھوٹی عمارت میں ہیں، تو تہ خانے میں چلے جائیں یا عمارت کی سب سے نچلی منزل پر کسی اندرونی کمرے میں چلے جائیں۔ کھڑکیوں سے دور رہیں۔ الماریاں، بیت الخلاء اور دیگر اندرونی کمرے بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ کسی مضبوط چیز کے نیچے گھس جائیں یا اپنے آپ کو گدے سے ڈھانپ لیں۔
- اگر سکول، ہسپتال، یا خریداری مرکز میں ہیں، تو پہلے سے مقرر کردہ جائے پناہ میں چلے جائیں۔ بڑے کھلے علاقوں اور کھڑکیوں سے دور رہیں۔ اپنی کار سے باہر نہ نکلیں۔
- اگر اونچی عمارت میں ہیں تو، کسی اندرونی چھوٹے کمرے یا دالان میں یا ممکنہ ترین نچلی منزل پر چلے جائیں۔ لفٹ کا استعمال نہ کریں - اس کے بجائے سیڑھیاں استعمال کریں۔

## آفت زدہ حالت میں اشیائے صرف

آفت زدہ حالات کے نمٹنے کی اشیاء کو قابل رسائی رکھیں، بشمول:

- فلیش لائٹ اور اضافی بیٹریاں
- بیٹری سے چلنے والا ریڈیو اور اضافی بیٹریاں
- ابتدائی طبی امداد اور رہنما کتابچہ
- ہنگامی صورتحال کے لیے کھانا اور پانی
- بجلی کے بغیر چلنے والا کین اوپنر
- ضروری ادویات
- چیک بک، نقد رقم، کریڈٹ کارڈز، ATM کارڈز

ذاتی تیاری اور شدید موسم میں محفوظ رہنے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں:  
اور Instagram پر فالو کریں۔ - <https://www.dhSES.gov/safety> - NYSDHSES@ کو اس کے سوشل میڈیا چینلز، بشمول Facebook، X،

###

مزید خبریں [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov) پر دستیاب ہیں  
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمر | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418  
گورنر آفس سے اپ ڈیٹس کے لیے سائن اپ کریں: [ny.gov/signup](http://ny.gov/signup) | 81336 پر NEW YORK ٹیکسٹ کریں

[ان سبسکرائب کریں](#)